

ایسا پلان جو دے آپ کو کئی طرح کے فوائد

چارجز:

اس پلان میں درج ذیل چارجز منہا کیے جاتے ہیں۔
انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج فنڈ و بلیو کا 0.125 فیصد ماہانہ
بڈ آفسپرڈ: سالانہ کٹری بیوٹن کا 5 فیصد
ایڈمنسٹریشن چارجز: 60 روپے سالانہ

ڈسکلیمر (Disclaimer):

- یہ پراڈکٹ ای ایف یو لائف ایشرنس لمیٹڈ نے سامبا بینک کے کسٹمرز کیلئے ڈیزائن کیا، انڈر رائٹ کی اور گارنٹی دی ہے۔ یہ پراڈکٹ سامبا بینک نے نہ تو انشورڈ کی ہے اور نہ ہی اس کی گارنٹی دی ہے۔
- سامبا بینک اپنے قابل قدر کسٹمرز کے لئے اس پراڈکٹ کا صرف پرموٹر اور کارپوریٹ انشورنس ایجنٹ ہے۔
- انشورنس پالیسی سے متعلق تمام انشورنس کلیمز، چارجز اور ادائیگیاں ای ایف یو لائف کی ذمہ داری ہوں گی۔
- پلان کا پرییم کسٹمر کے منتخب کردہ فنڈز میں انویسٹ کیا جائے گا۔
- ضروری نہیں کہ فنڈ کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کیلئے رہنمائی کا باعث ہو۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجہانی کرے یا فنڈز کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور نہ ہی ای ایف یو لائف ایشرنس اور نہ سامبا بینک کسی بھی طرح ذمہ دار ہوں گے۔
- ہمارا سلیز کا نمائندہ آپ کے فوائد کی شخصی مثال پیش کرے گا۔ برائے مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کو تفصیلاً سمجھنے کے لئے اس مٹل میں بیان کی گئی باتوں کو بغور پڑھیں۔
- یہ معاہدہ کس طرح کام کرتا ہے اسے پالیسی کے قواعد و شرائط میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پراڈکٹ کی خصوصیات اور فوائد کا ایک عمومی خاکہ پیش کرتا ہے اور اس میں دیئے گئے اعداد و شمار ظاہری ہیں اور بطور مثال پیش کئے گئے ہیں۔



EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House: Plot No. 112, 8th East Street, Phase I,
DHA, Karachi, Pakistan.

Tel: (021) 111-EFU-111 (111-338-111) Fax: (021) 34537519

Website: www.efulife.com

یونٹ ایلو کیشن:

پرییم کو درج ذیل یونٹ ایلو کیشن کے مطابق انویسٹ کیا جائے گا۔

ایلو کیشن کی شرح	پالیسی کا سال
1	35%
2	80%
3	90%
4 سے 5	100%
6 سے 10	103%
11 سال اور آگے	105%

آپشنل بینیفٹس:

پلان میں موجود ہیں:

- ایکسڈنٹل ڈیٹھ بینیفٹ
- ایکسڈنٹل ڈیٹھ اینڈ ڈسبیلٹی بینیفٹ پلس
- پرییم کی چھوٹ
- ایڈیشنل ٹرم انشورنس
- فیملی آکم بینیفٹ
- لائف کیئر بینیفٹ پلس



سامبا

فیوچر سیکور پلان



samba سامبا

زندگی ناقابل اعتبار ہے!

تاہم صحیح مالی منصوبہ بندی سے آپ اپنے عزائم اور مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ سامبا فیوچر سیکور پلان ایک ایسا وسیع مالی منصوبہ ہے جو آپ کو لمبی مدت کے لئے تحفظ کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر آپ کی تمام بچت اور سرمایہ کاری پر اعلیٰ منافع دیتا ہے۔

اہلیت اور پلان کی مدت:

تمام لوگ جو 18 سے 65 سال کے درمیان ہیں وہ اس تمام زندگی کا پلان کے لئے اہل ہیں۔

فنڈ سلیکشن آپشن:

پالیسی رکھنے والے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری یا تحفظ کی ترجیح کی بنیاد پر یونٹ فنڈ منتخب کرے، پیش کردہ فنڈز درج ذیل ہیں۔

- ای ایف یو میٹجڈ گروتھ فنڈ: اس فنڈ کا مقصد سرمائے میں اضافہ اور مستحکم ریٹرن کا حصول ہے۔
- ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ: اس فنڈ کا مقصد مستحکم ریٹرن کا حصول اور اس بات کی ضمانت دینا ہے کہ فنڈ کی قیمت (Bid Price) کا کبھی کم نہ ہونا۔ بزرگ اور رسک ناپسند کرنے والوں کے لئے مثالی ہے۔

فنڈ ایکسیریشن پریمیم (FAP):

اگر اضافی سرمایہ موجود ہے تو یہ منصوبہ پالیسی ہولڈر کو اپنی بچت کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ یکمشت پریمیم FAP کہلاتی ہیں اور پالیسی کے ہوتے ہوئے کسی بھی وقت پر ادائیگی جاسکتی ہے۔ ایک بار میں کم سے کم FAP کی رقم 50,000 روپے جمع کرائی جاسکتی ہے۔

پریمیم کی حد:

کم از کم بنیادی پریمیم مندرجہ ذیل جدول میں ہے۔
پریمیم کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد (مقرر) نہیں ہے۔

فریکوئنسی	کم سے کم پریمیم
سالانہ	24,000 روپے سالانہ
ششماہی	12,000 روپے ششماہی
سہ ماہی	6,000 روپے سہ ماہی

فری لک پیریڈ:

پالیسی 14 دن کا فری لک وقت/مدت پیش کرتی ہے جو کہ پالیسی کے آغاز کی تاریخ سے لے کر بیمہ دار کو پالیسی منسوخ کرنے کی اجازت دیتا ہے ادا کی گئی رقم کی مکمل واپسی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ تاہم قانون کے مطابق پالیسی کے دوران کئے گئے میڈیکل چیک اپ/جانچ پڑتال سے متصل چند چارجز کی کٹوتی ہو سکتی ہے۔

ڈیٹھ بینیفٹس:

موت کی صورت میں قابل ادائیگی رقم:
سم اشورڈ اور کیش ویلیو میں دنوں میں سے زیادہ رقم جس کی ہو:
پلس
FAP کی مدد میں حاصل کردہ کیش ویلیو کے پونٹس کی رقم۔

سم اشورڈ:

سم اشورڈ انداز کے وقت عمر کی لحاظ سے دی گئی ایک ریٹج سے منتخب کیا جاسکتا ہے۔
سالانہ بنیادی پریمیم کو پروٹیکشن ملٹی پل سے ضرب دے کر تعین کیا جاسکتا ہے۔
پروٹیکشن ملٹی پل مندرجہ ذیل دی گئی جدول سے منتخب کیا جاسکتا ہے۔

عمر کی حد	پروٹیکشن ملٹی پل
18 سے 35	5 سے 75
36 سے 40	5 سے 50
41 سے 49	5 سے 35
50 سے 60	5 سے (70 سال - عمر)
60 سے 65	5

مشترکہ زندگی:

یہ پلان مشترکہ زندگی بیمہ کی بنیاد پر بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ مشترکہ بیمہ زندگی کیلئے بینیفٹ پہلے دعویٰ کی گئی زندگی پر قابل ادا ہے۔ مشترکہ بیمہ زندگی کیلئے پروٹیکشن ملٹی پل پلان کے آغاز میں مؤثر عمر (Effective Age) پڑتی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

عمر کی حد	پروٹیکشن ملٹی پل
18 سے 35	5 سے 45
36 سے 40	5 سے 30
41 سے 45	5 سے 15
46 سے 49	5 سے 10
50 سے 65	5

انفلیشن پروٹیکشن:

یہ آپشن آپ کو تحفظ (سلامتی) اور اس بات کے علم کا ذہنی سکون مہیا کرتا ہے کہ آپ کا پلان ہر سال آپ کی صحت کے پیش نظر خود بخود اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ اس آپشن کے ذریعے، ہر سال کنٹری بیوشن پچھلے سال ادا کی گئی رقم سے 5% بڑھ جائے گی۔ اس طرح سے سم اشورڈ بھی اسی تناسب سے بڑھے گا۔ تاہم آپ یہ منتخب کر سکتے ہیں کہ صرف آپ کی کنٹری بیوشن بڑھے اور سم اشورڈ ابتدائی سطح پر ہی رہے۔ اس طرح سے اضافی دی گئی رقم آپ کے سرمائے کی بڑھانے میں صرف کی جائے۔
یہ بینیفٹ 55 سال کی عمر تک کیلئے دستیاب ہے اور اگر آپ کو ابتدائی طور پر فراہم کردہ معیاری شرائط پر قبول کیا گیا۔

بچتوں تک رسائی:

آپ کو دو سال کی مدت کے بعد اپنے مختص فنڈ سے اپنی کیش ویلیو کی بنیاد سے جزوی یا مکمل دستبرداری کی اجازت حاصل ہے۔

پرائمز:

پالیسی ہولڈر خود بخود PRIMUS کیلئے اہل جانے جائیں گے اگر وہ کم سے کم سالانہ پریمیم کمپنی پالیسی کے مطابق ادا کریں گے۔
PRIMUS کے کلائنٹس میڈیکل لیبارٹریز، آن لائن ڈسکاؤنٹس اور ایئر پورٹ لاؤنج داخلے جیسے فوائد اہل ہیں۔